

سُورَةُ الْوَاقِعَاتِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

❖ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ①	جب پیش آجائے گا وہ ہونے والا واقعہ ①
لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ②	تو نہ ہوگا اس کے وقوع کو کوئی جھٹلانے والا ②
خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ③	(ہوگا یہ) تہہ و بالا کر دینے والا ③
إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ④	جب ہلا ڈالی جائے گی زمین یکبارگی ④
وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ⑤	اور ریزہ ریزہ کر دیئے جائیں گے پہاڑ پوری طرح ⑤
فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ⑥	تو ہو جائیں گے وہ مانندِ غبار بکھرے ہوئے ⑥
وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ⑦	اور ہو گے تم گروہ تین قسم کے ⑦
فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ⑧	سو دائیں بازو والے،
مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ⑧	کیا کنادائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا؛ ⑧
وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمِ ⑨	اور بائیں بازو والے
مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمِ ⑨	کیا ٹھکانا بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا؛ ⑨
وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ⑩	اور سبقت لے جانے والے تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے ⑩
أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ⑪	یہ تو ہیں ہی مقرب لوگ ⑪
فِي جَنَّتِ التَّعِيمِ ⑫	جو رہیں گے نعمت بھری جنتوں میں ⑫
ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأُولِينَ ⑬	بہت ہوں گے پہلوں میں سے ⑬

وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿١٣﴾

اور کم ہوں گے پچھلوں میں سے ﴿١٣﴾

عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿١٤﴾

(یہ سب) آراستہ پیراستہ مسندوں پر ﴿١٤﴾

مُتَكِبِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِّلِينَ ﴿١٥﴾

تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے ﴿١٥﴾

يُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٦﴾

یہ بچھریں گے ان کے ارد گرد ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے ﴿١٦﴾

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ هَٰ وَكَأْسٍ

سافر، صراحی اور جام

مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾

نقھری، ہوئی شراب کے ﴿١٨﴾

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا

ایسی کہ نہ سر چکرائے اسے پی کر

وَلَا يُنْزَفُونَ ﴿١٩﴾

اور نہ عقل میں فتور آئے ﴿١٩﴾

وَفَاكِهَةٍ

اور (پیش کریں گے) الذین بھل

مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾

تاکہ اس میں سے جسے چاہیں پسند کر لیں ﴿٢٠﴾

وَلَحْمِ طَيْرٍ

اور (پیش کریں گے) گوشت پرندوں کا

مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾

تاکہ لے لیں اپنی رغبت کے مطابق ﴿٢١﴾

وَحُورٍ عِينٍ ﴿٢٢﴾

اور حوریں ہوں گی خوبصورت آنکھوں والی ﴿٢٢﴾

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾

ایسی حسین جیسے موتی جنہیں چھپا کر رکھا گیا ہو ﴿٢٣﴾

جَزَاءً

(یہ سب کچھ ملے گا انہیں) جزا کے طور پر

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

ان اعمال کی جو وہ کرتے رہے ﴿٢٤﴾

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا

نہیں سنیں گے وہ وہاں کوئی بے ہودہ کلام

وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٥﴾

اور نہ گناہ کی بات ﴿٢٥﴾

إِلَّا رِقِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾

سوائے ایک بول کے سلام، ہوتم پر، سلام ہوتم پر ﴿٢٦﴾

اور دائیں بازو والے،

وَأَصْحَبُ الْيَمِينِ ۝

کیا کتا دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا! ﴿۲۵﴾

مَا أَصْحَبُ الْيَمِينِ ﴿۲۵﴾

وہ ہوں گے ایسے باغات میں جن میں بیریاں ہوں گی بے خار ﴿۲۶﴾

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿۲۶﴾

اور کیلے تر بہ تر ﴿۲۷﴾

وَأُطْلَجِ مَنضُودٍ ﴿۲۷﴾

اور چھاؤں دور تک پھیلی ہوئی ﴿۲۸﴾

وَوَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴿۲۸﴾

اور پانی ہر دم رواں ﴿۲۹﴾

وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿۲۹﴾

اور طرح طرح کے لذیذ پھل بکثرت ﴿۳۰﴾

وَوَاقِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿۳۰﴾

کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ﴿۳۱﴾

لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿۳۱﴾

اور نشست گاہیں اونچی اونچی ﴿۳۲﴾

وَوُفُوشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿۳۲﴾

ہم پیدا کریں گے ان بیویوں کو نئے سرے سے ﴿۳۳﴾

إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً ﴿۳۳﴾

اور بنادیں گے انہیں کنواریاں ﴿۳۴﴾

فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿۳۴﴾

شوہروں کی عاشق زار اور عمر میں ہم سن ﴿۳۵﴾

عُرَبًا أَتْرَابًا ﴿۳۵﴾

یہ سب کچھ ہوگا دائیں بازو والوں کے لیے ﴿۳۶﴾

لِلْأَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿۳۶﴾

وہ بہت ہوں گے انگوٹوں میں سے ﴿۳۷﴾

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأُولِيْنَ ﴿۳۷﴾

اور بہت ہوں گے پچھلوں میں سے ﴿۳۸﴾

وَشُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿۳۸﴾

اور بائیں بازو والے، بائیں بازو والوں کی بر نصیبی کا کیا ٹھکانا! ﴿۳۹﴾

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ۝ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿۳۹﴾

وہ ہوں گے لوکی آپٹ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں ﴿۴۰﴾

فِي سَوْمٍ وَحَمِيمٍ ﴿۴۰﴾

اور سایے میں، سخت کالے دھوئیں کے ﴿۴۱﴾

وَوَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُومٍ ﴿۴۱﴾

جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ ﴿۴۲﴾

لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿۴۲﴾

- إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٥٥﴾
یقیناً یہ لوگ تھے اس سے پہلے غرض حالی میں مگن ﴿٥٥﴾
- وَكَانُوا يُبْصِرُونَ عَلَى الْيَحْنِثِ الْعَظِيمِ ﴿٥٦﴾
اور اصرار کیا کرتے تھے بڑے بڑے گناہوں پر ﴿٥٦﴾
- وَكَانُوا يَقُولُونَ هَذَا مِثْنَا
وَكَانُوا تَرَابًا وَعِظَامًا ءِإِنَّا
لَمَبْعُوثُونَ ﴿٥٧﴾
اور کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے
اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا یقیناً ہم
پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ ﴿٥٧﴾
- أَوِ آبَاؤُنَا
الْأَوَّلُونَ ﴿٥٨﴾
اور کیا ہمارے باپ دادا بھی (اٹھائے جائیں گے)
جو پہلے گزر چکے ہیں؟ ﴿٥٨﴾
- قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٥٩﴾
کیسے بلاشبہ پہلے بھی اور پچھلے بھی ﴿٥٩﴾
- لَجَسْبُوعُونَ ۚ
سب ضرور جمع کیے جانے والے ہیں
- إِلَىٰ مَبِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٦٠﴾
ایک معین دن کے وقت مقرر پر ﴿٦٠﴾
- ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٦١﴾
پھر یقیناً تم لے گرا ہو اور جھٹلانے والو! ﴿٦١﴾
- لَا تَكُونُوا مِنْ شَجَرٍ
مِنْ زُقُومٍ ﴿٦٢﴾
ضرور کھاؤ گے تم ایک درخت میں سے
جو از قسم زقوم ہوگا ﴿٦٢﴾
- فَمَا لَكُمْ مِنْهَا الْبُطُونِ ﴿٦٣﴾
سو بھرو گے اسی سے اپنے پیٹ ﴿٦٣﴾
- فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٦٤﴾
پھر پیو گے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ﴿٦٤﴾
- فَشَرِبُونَ شُرَبَ الْهَلِيمِ ﴿٦٥﴾
سو پیو گے جیسے پیتے ہیں پیاس کے ماے ہوئے اونٹ ﴿٦٥﴾
- هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٦٦﴾
یہ ہوگی بائیں بازو والوں کی ضیافت روز جزا ﴿٦٦﴾
- نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ ﴿٦٧﴾
ہم ہی نے پیدا کیا ہے تمہیں پھر کیوں نہیں یقین کرتے تم؟ ﴿٦٧﴾
- أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٦٨﴾
کیا کبھی غور کیا تم نے کہ یہ جو نطفہ ڈالتے ہو تم؟ ﴿٦٨﴾

- ۵۹) کیا تم پیدا کرتے ہو بچہ یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ ۵۹
- ہم مقدر کر چکے ہیں تمہارے درمیان موت اور نہیں ہیں ہم عاجز ۶۰
- اس بات سے کہ بدل دیں ہم تمہارے وجود ہی کو اور پیدا کریں تمہیں ایسی شکل و صورت میں جس کو تم جانتے ہی نہیں ۶۱
- اور یقیناً تم جانتے ہو پہلی پیدائش کو تو تم کیوں نہیں سبق لیتے؟ ۶۲
- کیا کبھی سوچا تم نے کہ یہ جو تم بیج ہوتے ہو ۶۳
- کیا تم اگاتے ہو اس سے کھیتی یا ہم ہیں اگانے والے؟ ۶۴
- اگر ہم چاہیں تو بنا کر رکھ دیں اسے جس اور رہ جاؤ تم باتیں بناتے ۶۵
- کہ ہم پر تو چٹی پڑ گئی ہے ۶۶
- بلکہ ہمارے نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں ۶۷
- کیا کبھی سوچا تم نے کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو؟ ۶۸
- کیا تم نازل کرتے ہو اسے بادل سے یا ہم ہیں نازل کرنے والے؟ ۶۹
- اگر ہم چاہیں تو بنا کر رکھ دیں اسے سخت کھاری پھر کیوں نہیں تم شکر گزار ہوتے؟ ۷۰
- ۵۹) ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَہَا اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ ۵۹
- نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۶۰
- عَلٰى اَنْ تُبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئُكُمْ فِىْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۶۱
- وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاةَ الْاُولٰٓى ۶۲
- فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ۶۳
- اَفَرءٰۤیْتُمْ مَّا تَحْرَثُوْنَ ۶۴
- ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَہَا اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ ۶۵
- لَوْ نَشَاۤءُ لَجَعَلْنٰہُ حُطًا مَّا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُوْنَ ۶۶
- اِنَّا لَمُعْرَمُوْنَ ۶۷
- بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُوْنَ ۶۸
- اَفَرءٰۤیْتُمْ الْمَآءَ الَّذِیْ تَشْرَبُوْنَ ۶۹
- ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْہُ مِنْ الْمَزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُوْنَ ۷۰
- لَوْ نَشَاۤءُ لَجَعَلْنٰہُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ۷۰

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٤١﴾

کیا تم نے کبھی غور کیا کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو؟ ﴿٤١﴾

ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا

کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کا درخت

أَمْ رَحْنُ الْمُنْشَوْنَ ﴿٤٢﴾

یا ہم ہیں ان کے پیدا کرنے والے؟ ﴿٤٢﴾

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً

ہم نے بنایا ہے آگ کو یاد دہانی کا ذریعہ

وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ﴿٤٣﴾

اور رکھے ہیں اس میں فائدے تمام حاجتمندوں کے لیے ﴿٤٣﴾

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٤٤﴾

پس اے نبی تسبیح کر اپنے رب عظیم کے نام کی ﴿٤٤﴾

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْعِدِ النُّجُومِ ﴿٤٥﴾

پس نہیں، قسم کھاتا ہوں میں ستاروں کی گزرگاہوں کی ﴿٤٥﴾

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ

اور بلاشبہ یہ ایک قسم ہے،

لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٤٦﴾

اگر تم سمجھتو۔ بہت بڑی قسم ﴿٤٦﴾

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٤٧﴾

واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن ہے بلند پایہ ﴿٤٧﴾

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٤٨﴾

جو (ثبت ہے) ایک محفوظ کتاب میں ﴿٤٨﴾

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٤٩﴾

نہیں چھوتے اسے مگر وہ جو پاک صاف ہیں ﴿٤٩﴾

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٠﴾

نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے ﴿٥٠﴾

أَفِيْهِذَا الْحَدِيثِ

کیا پھر اس کلام کے ساتھ

أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴿٥١﴾

تم بے پروائی برتتے ہو؟ ﴿٥١﴾

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ

اور رکھا ہے تم نے اپنا حصہ (اللہ کی اس نعمت میں)

أَنْكُمْ سُكَّابُونَ ﴿٥٢﴾

یہ کہ تم جھٹلاتے ہو اسے ﴿٥٢﴾

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٥٣﴾

سو کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے (جان) حلق تک ﴿٥٣﴾

وَأَنْتُمْ حِينِيْدٌ تَنْظُرُونَ ﴿٥٤﴾

اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو ﴿٥٤﴾

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ

اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تمہاری نسبت

وَلَكِنَّ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾

لیکن تم کو نظر نہیں آتے ﴿٨٥﴾

فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾

سو اگر نہیں ہو تم کسی کے محکوم ﴿٨٦﴾

تَرْجِعُونَهَا إِنْ

تو کیوں نہیں لوٹا لیتے اس کی رُوح کو، اگر

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾

ہو تم سچے؟ ﴿٨٧﴾

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾

سو اگر ہو تب ہے مرنے والا مقربین میں سے ﴿٨٨﴾

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ۝

تو اس کے لیے راحت ہے اور عمدہ رزق ہے

وَجَدْتُمْ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾

اور نعمت بھری جنت ہے ﴿٨٩﴾

وَأَمَّا إِنْ كَانَ

پھر اگر ہے وہ

مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾

اصحابِ الیمین میں سے ﴿٩٠﴾

فَسَلَّمَ لَكَ

تو اس کا استقبال ہوگا "سلام ہو تم پر

مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾

تم اصحابِ الیمین میں سے ہو" ﴿٩١﴾

وَأَمَّا إِنْ كَانَ

اور اگر ہوگا وہ

مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾

جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ﴿٩٢﴾

فَنُزِّلُ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾

تو اس کی تواضع کے لیے ہوگا کھولتا ہوا پانی ﴿٩٣﴾

وَتَصْلِيَةٌ جَعِيمٍ ﴿٩٤﴾

اور جھونکا جانا جہنم میں ﴿٩٤﴾

إِنَّ هَذَا لَهُوَ

بلاشبہ یہی ہے

حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾

قطعی حق ﴿٩٥﴾

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾

پس اے نبی تیسبح کرو اپنے ربِ عظیم کے نام کی ﴿٩٦﴾